



BANKING HSSC-II

20

SECTION – A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Version Number 4 0 7 1

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on the separately provided OMR Answer Sheet which should be completed in the first 20 minutes and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

Q. 1 Choose the correct answer A / B / C / D by filling the relevant bubble for each question on the OMR Answer Sheet according to the instructions given there. Each part carries one mark.

- 1) Chartered Bank of England was formed by:
A. Royal order
B. Special ordinance
C. Companies ordinance
D. Sole tradership
- 2) The word "bank" has been derived from German word:
A. Back
B. Bancus
C. Banque
D. Banco
- 3) When there is no branch of State Bank, clearing house function is performed by:
A. National Bank
B. Habib Bank
C. United Bank
D. Allied Bank
- 4) Formula of credit creation is:
A. $\text{New Deposit} \times \frac{1}{\text{Reserve Ratio}}$
B. $\text{Reserve Ratio} \times \frac{1}{\text{New Deposit}}$
C. $\frac{\text{New Deposit} \times \text{Reserve Ratio}}{100}$
D. $\frac{100}{\text{New Deposit} \times \text{Reserve Ratio}}$
- 5) When a non-scheduled bank wants to change its status, in addition to memorandum and articles it should also submit:
A. Audited Annual Report
B. Prospectus
C. Balance Sheet
D. Income Statement
- 6) What is an actual delivery of rights as well a possession of good/property to bank against loan?
A. Mortgage
B. Lein
C. Pledge
D. Hypothecation
- 7) Pay in slip book is also called:
A. Deposit book
B. Pass book
C. Cheque book
D. TDR
- 8) Tax is **NOT** deducted from _____ account.
A. Saving
B. Current
C. Fixed
D. Foreign currency
- 9) Which type of endorsement has no legal value?
A. General
B. Special
C. Partial
D. Restricted
- 10) For which negotiable instrument grace days are provided?
A. Cheque
B. Bill of exchange
C. Promissory note
D. Bank draft
- 11) Bank charges commission for issuing a:
A. Cheque
B. Bill of exchange
C. Promissory note
D. Bank draft
- 12) The means and methods by which right to wealth is expressed in terms of currency of one country are converted into right to wealth in terms of currency of another country are known as:
A. Foreign exchange
B. Exchange rate
C. Exchange control
D. Exchange market
- 13) Governor of state bank is appointed for:
A. 3 years
B. 4 years
C. 5 years
D. 2 years
- 14) Reserve Bank of India was formed in:
A. 1930
B. 1932
C. 1935
D. 1936
- 15) The payment of letter of credit is **NOT** confirmed because bank or importer may cancel it at any time:
A. Revocable LC
B. Irrevocable LC
C. Confirmed LC
D. Unconfirmed LC



بینکاری ایچ ایس ایس سی-II

وقت: 20 منٹ

حصہ اول (کل نمبر: 15)

Version No. 4 0 7 1

نوٹ: حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات الگ سے مہیا کی گئی ادایم آر (OMR) جوابی کاپی پر دیں۔ اس کو پہلے بیس منٹ میں مکمل کر کے ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کات کر دو بارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ریڈیٹل کا استعمال ممنوع ہے۔

سوال نمبر: مہیا کی گئی ادایم آر (OMR) جوابی کاپی پر دی گئی ہدایات کے مطابق ہر سوال کا درست جواب A/B/C/D منتخب کر کے متعلقہ دائرہ (Bubble) پر کریں۔ ہر جزو کا ایک نمبر ہے۔

- (1) چارٹرڈ بینک آف انگلینڈ کا قیام کس طریقے سے کیا گیا؟
A رائل آرڈر سے B خصوصی آرڈیننس سے C کمپنیز آرڈیننس سے D واحد ملکیتی طریقہ سے
- (2) لفظ بینک جرمن زبان کے جس لفظ سے لیا گیا ہے وہ کہلاتا ہے:
A بیک (Back) B بانکس (Bancus) C بینک (Banque) D بینکو (Banco)
- (3) جہاں کہیں اسٹیٹ بینک کی برانچ نہیں ہوتی اس کی جگہ کون سا بینک حساب گھر کی سہولت دیتا ہے؟
A نیشنل بینک B حبیب بینک C یونائیٹڈ بینک D الائیڈ بینک
- (4) زر اعتبار کی تخلیق مندرجہ ذیل فارمولے سے کی جاسکتی ہے:
A $\text{New Deposit} \times \frac{1}{\text{Reserve Ratio}}$ B $\text{Reserve Ratio} \times \frac{1}{\text{New Deposit}}$ C $\frac{\text{New Deposit} \times \text{Reserve Ratio}}{100}$ D $\frac{100}{\text{New Deposit} \times \text{Reserve Ratio}}$
- (5) غیر فہرستی بینک کو فہرستی بنانے کے لیے بینک کو مندرجہ ذیل دستاویزات جمع کرنی ہوتی ہیں۔ بینک کا آئین، ضوابط اور:
A پرنٹ شدہ سالانہ رپورٹ B پیش نامہ C گوشوارہ توازن D گوشوارہ آمدن
- (6) قرض کی کفالت کے طور پر مقروض کی طرف سے کسی شے کا قرض خواہ کو منتقل کرنا کہلاتا ہے۔
A مگروی B استحقاق C رہن D ہائی پوٹھیکیشن
- (7) بچے ان سلیپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے:
A رقم جمع کرانے کی رسید B پاس بک C چیک بک D TDR
- (8) کس کھاتے میں ٹیکس کی کٹوتی نہیں ہوتی؟
A بچت کھاتہ B جاری کھاتہ C معیادی کھاتہ D فارن کرنسی کھاتہ
- (9) کس قسم کی تصدیق کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے؟
A سادہ تصدیق کی B خصوصی تصدیق کی C جزوی تصدیق کی D محدود تصدیق کی
- (10) وہ آلہ اعتبار جس میں رعایتی مدت ملتی ہے کہلاتا ہے۔
A چیک B ہنڈی C تحریری وعدہ D بینک ڈرافٹ
- (11) بینک اس آلہ اعتبار کے اجراء پر کمیشن وصول کرتا ہے:
A چیک B ہنڈی C تحریری وعدہ D بینک ڈرافٹ
- (12) وہ تمام آلات اعتبار جن کے ذریعے غیر ممالک میں ادائیگیاں اور وصولیاں کی جاتی ہیں کہلاتے ہیں۔
A مبادلہ خارجہ B شرح مبادلہ C مبادلہ پہ کنٹرول D مبادلہ خارجہ مارکیٹ
- (13) اسٹیٹ بینک کے گورنر کا تقرر _____ کے لیے کیا جاتا ہے۔
A تین سال B چار سال C پانچ سال D دو سال
- (14) ریزرو بینک آف انڈیا کا قیام _____ میں عمل میں آیا۔
A 1930ء B 1932ء C 1935ء D 1936ء
- (15) کس اعتباری خط کی ادائیگی یقینی نہیں ہوتی کیونکہ بینک اسے کسی بھی وقت منسوخ کر سکتا ہے؟
A قابل تنفیخ اعتباری خط B ناقابل تنفیخ اعتباری خط C مصدقہ اعتباری خط D غیر مصدقہ اعتباری خط



BANKING HSSC-II

21

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 60

NOTE: Answer any nine parts from Section 'B' and any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Use supplementary answer sheet i.e. Sheet-B if required. Write your answers neatly and legibly.

SECTION - B (Marks 36)

Q. 2 Answer any NINE parts. The answer to each part should not exceed 2 to 4 lines. (9 x 4 = 36)

- What do you know about development banks?
- Write any four advantages of clearing house.
- Briefly explain two methods of issuing currency notes.
- Write any four factors that affect cash reserve.
- Describe any four limitations of credit creation.
- What is the procedure of converting a non-scheduled bank into a scheduled bank?
- List out any four qualities of good security.
- Write any four advantages to the Government of opening bank account?
- What are four elements of cheque?
- Briefly explain any two differences between general and special crossing.
- Define commercial letter of credit. Also mention its parties.
- Describe any four advantages of Exchange Control?

SECTION - C (Marks 24)

Note: Attempt any TWO questions. All questions carry equal marks. (2 x 12 = 24)

- What are credit control measures of central bank.
- Differentiate between bill of exchange and promissory note in detail.
- Discuss 'Exchange Control'. Also explain different methods of 'Exchange Control'.

حصہ دوم (کل نمبر 36)

(9x4=36)

سوال نمبر ۲: مندرجہ ذیل اجزاء میں سے نو (09) کے دو سے چار سطروں تک محدود جوابات لکھیں:

- | | | | |
|-------|--|--------|---|
| (i) | ترقیاتی بینکوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ | (ii) | حساب گھر کے کوئی سے چار فوائد لکھیں۔ |
| (iii) | نوٹ جاری کرنے کے دو طریقوں پر بحث کریں۔ | (iv) | محفوظ زینت کا تعین کرنے والے کوئی سے چار عوامل لکھیں۔ |
| (v) | زراعتی ترقی کی چار حد بندیاں بتائیں۔ | (vi) | غیر فہرستی بینک کو فہرستی بینک بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ |
| (vii) | اچھی کفالت کی چار خصوصیات لکھیں۔ | (viii) | بینک کے کھاتے کھلوانے کے حکومت کے لیے کوئی سے چار فوائد بتائیں۔ |
| (ix) | چیک کے کوئی سے چار اندراجات بتائیں۔ | (x) | عمومی اور خصوصی کراس کاری کے دو فرق بتائیں۔ |
| (xi) | تجارتی اعتباری خط کی تعریف کریں اور اس کے فریق بتائیں۔ | (xii) | مبادلہ پر کنٹرول کے کوئی سے چار مقاصد لکھیں۔ |

حصہ سوم (کل نمبر 24)

(2x12=24)

(کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

سوال نمبر ۳: مرکزی بینک کی زرری پالیسی کے اہم طریقوں پر بحث کریں۔

سوال نمبر ۴: ہنڈی اور تحریری وعدہ میں فرق تفصیلاً بیان کریں۔

سوال نمبر ۵: مبادلہ پر کنٹرول پر بحث کریں اور اس کے طریقے بتائیں۔

Computer Analysis



Result.pk